

## علیحدگی کے معاہدے

### علیحدگی کا معاہدہ کیا ہے؟

جب کوئی جوڑا فیصلہ کرتا ہے کہ اب ان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے اور وہ الگ رہنا چاہتے ہیں، تو انہیں الگ سمجھا جائے گا۔ "قانونی طور پر علیحدگی کا کوئی عمل" نہیں ہے۔

علیحدگی اختیار کرنے والے جوڑے یا تو شادی شدہ ہو سکتے ہیں یا مشترکہ قانون (کامن لاء) کے رشتے میں ہو سکتے ہیں۔

جوڑے کو علیحدہ سمجھا جا سکتا ہے اگر :

- ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں یا؛
- وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ان کا رویہ ایسا ہے کہ جیسے وہ الگ رہ رہے ہیں

جب ایک جوڑا الگ ہو جاتا ہے، تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علیحدگی کے بعد ہر فرد پر قانونی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ علیحدگی کا معاہدہ اس بات کا معاہدہ ہے کہ جوڑے کی علیحدگی کے بعد کیا ہوگا۔

علیحدگی کی صحیح تاریخ کو دستاویز کرنا ضروری ہے۔ اس سے اس بات پر اثر پڑے گا کہ آپ کتنی جلد طلاق لے سکتے ہیں (اگر آپ طلاق لینے کا فیصلہ کرتے ہیں)، آپ کو امدادی ادائیگیاں کب مل سکتی ہیں اور آپ اپنی جائیداد کو کیسے تقسیم کرتے ہیں۔

ایک جوڑے کے الگ ہونے پر علیحدگی کا معاہدہ کرنا عام بات ہے۔

### عام مسائل جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہیں :

- فیصلہ سازی کی ذمہ داری - بچوں کے بارے میں اہم فیصلے کون کرے گا۔
- بچے کہاں رہیں گے
- بچوں کی پرورش کرنے (پیرنٹنگ) کا وقت - بچے والدین میں سے ہر ایک کے ساتھ کتنا وقت گزاریں گے
- جائیداد - جوڑے کی ملکیت والی جائیداد کا کیا ہوگا؟
- بچوں کا نفقہ (چائلڈ سپورٹ) - ایک والد/والدہ دوسرے والد/والدہ کو کتنی چائلڈ سپورٹ ادا کرے گی/گا۔
- زوجین کا نفقہ - زوجین کا نفقہ کون ادا کرے گا اور کتنا

### معادہ کیسے کریں:

- غیر رسمی طور پر - فریقین اس کو لکھے بغیر نجی طور پر مسائل پر متفق ہو سکتے ہیں۔ اس کی تجویز نہیں کی جاتی ہے کیونکہ معاہدے کا کوئی ثبوت نہیں رہتا ہے۔
- تحریری طور پر - شرائط لکھی جائیں گی اور دونوں فریق معاہدے پر دستخط کریں گے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ایک گواہ موجود ہو۔ کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے قانونی مشورہ لینا بھی ضروری ہے۔ یہ معاہدہ عدالت میں بھی دائر کیا جا سکتا ہے تاکہ عدالت اس معاہدے کو نافذ کر سکے۔
- علیحدگی کا معاہدہ کرنے سے پہلے آپ کو تمام مسائل پر متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کچھ مسائل پر اتفاق کر سکتی/ سکتے ہیں اور باقی کا فیصلہ بعد کی تاریخ میں کر سکتی/سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت علیحدگی کا نیا معاہدہ کر سکتی/سکتے ہیں جب تک کہ دونوں فریق متفق ہوں۔

### مثال:

محمد اور فاطمہ نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ وہ صرف درج ذیل پر متفق ہیں:

- محمد اور فاطمہ بچوں کے لیے فیصلہ سازی کی ذمہ داری کا اشتراک کریں گے
- بچے پیر تا جمعہ فاطمہ کے ساتھ اور اختتام ہفتہ (week end) محمد کے ساتھ گزاریں گے
- وہ اپنا اپنا گھر بیچ دیں گے اور منافع کو تقسیم کریں گے

اس مثال میں، محمد اور فاطمہ نے فیصلہ سازی کی ذمہ داری، والد/والدہ کے طور پر پرورش (پیرنٹنگ) کا وقت، اور جائیداد کی تقسیم کے مسائل پر اتفاق کیا ہے۔ وہ اپنے علیحدگی کے معاہدے میں شرائط لکھیں گے اور بعد کی تاریخ میں بچوں کے نفقہ اور زوجین کے نفقہ کے مسائل پر اتفاق کریں گے۔

آپ کو علیحدگی کا معاہدہ نہیں کرنا چاہیے اگر:

- آپ کا ساتھی بدسلوکی کرتا ہے یا ماضی میں بدسلوکی کرتا رہا ہے
- آپ کے ساتھی کو دماغی صحت کے مسائل ہیں
- آپ اپنے ساتھی سے بات کرنے سے ڈرتے/ ڈرتے ہیں

اگر فریقین کسی بھی باقی مسائل پر اتفاق نہیں کر سکتے ہیں، تو انہیں جلد از جلد عدالتی کارروائی شروع کرنی چاہیے تاکہ عدالت ان کے لیے مسائل کو حل کرے۔

### علحدگی کے معاہدے کے کچھ حصوں کو تبدیل کرنا:

اگر معاہدہ جوڑے کے درمیان نجی طور پر کیا گیا تھا :

- وہ ایک نیا معاہدہ کر سکتے ہیں اور اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ پرانا معاہدہ اب درست نہیں ہے
- اگر وہ تبدیلیوں پر متفق نہیں ہو سکتے ہیں، تو وہ تنازعات کے حل کے طریقہ کار جیسے کہ ثالثی کے ذریعے اسے عدالت سے باہر حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا وہ عدالت جا سکتے ہیں (اگر انہوں نے معاہدہ عدالت میں دائر کیا ہے)

اگر جوڑے کو عدالتی حکم موصول ہوا ہے :

- اگر وہ تبدیلیوں پر متفق نہیں ہیں، تو انہیں پچھلے حکم کو "تبدیل" کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دینے کی ضرورت ہوگی
- انہیں عدالت میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آخری حکم کے بعد سے حالات میں تبدیلی آئی ہے
- اگر وہ تبدیلیوں پر اتفاق کرتے ہیں، تو وہ نئے معاہدے کو عدالت میں جمع کر سکتے ہیں اور عدالت سے اسے "رضامندی کا حکم" ("consent order") حاصل کر سکتے ہیں